

ROOTWORDS OF SURAH AL BAQARAH 15-18

يَسْتَهْزِئُ	يَمْذُهمْ	طُعْنَانِهِمْ	يَعْمَهُونَ	اسْتَفْزُوا	الصَّالِحَةُ
ہزا	م د د	ط غ ی	ع م ہ	ش ر ی	ض ل ل
وہ مذاق کرتا ہے	مہلت دیتا ہے انہیں	سرکشی ان کی	وہ بہک رہے ہیں	خرید لی	گمراہی
بِالْهٰذِئِ	رَبِحَتْ	تَجَارَتُهُمْ	مُهْتَدِينَ	مَثَلُهُمْ//كَمَثَلِ	اسْتَوْفَدَ
ہدی	رب ح	ت ج ر	ہ دی	م ث ل	وق د
ہدایت کے بدلے	عود مند / لفع دیا	ان کی تجارت نے	ہدایت پانے والے	ان کی مثال // جیسے مثال	جلائی / روشن کی اس نے
نَارًا	أَصْنَاءَهُثْ	حَوْلُهُ	ذَهَبَ	بَنُورِهِمْ	تَزَكَّيْهُمْ
نور	ض و ا	ح و ل	ذ ہ ب	ن و ر	ت ر ک
آگ	روشن کر دیا	اس کے ارد گرد	بجھادی / زائل کر دی	ان کی روشنی	انہیں چھوڑا
ظُلُمَاتٍ	يُضْرَوْنَ	صَلُّم	بُحْمٌ	عُصِيْ	يَزْجَعُونَ
ظ ل م	ب ص ر	ص م م	ب ک م	ع م ی	ر ج ع
اندھیرے	وہ دیکھتے	بہرے ہیں	گو گئے ہیں	انہ مے ہیں	وہ لوٹیں گے